

ہمارے سردیوں کے طریقہ کار کے بارے میں معلومات

سٹی آف برامپٹن (City of Brampton) کے عملے کے لوگ موسم سرما کے لیے تیار ہیں۔ برف باری کی صورت میں سڑکوں اور فٹ پاتھوں کے صفائی کے لیے ہم نے مندرجہ ذیل ترجیحات مقرر کی ہیں۔

کب؟	کیا کیا جائے گا؟	
	برف باری کے بعد سب سے پہلے صاف کی جائیں گی	بڑی سڑکیں
	اگر ضرورت ہو تو نمک چھڑکا جائے گا، اس کے بعد برف باری کے دوران مسلسل برف ہٹائی جائے گی	<ul style="list-style-type: none"> جن پر بہت زیادہ ٹریفک چلتی ہے (مثلاً مین سٹریٹ (Main Street)، برامالی روڈ (Bramalea Road)) جو برامپٹن ٹرانزٹ (Brampton Transit) / زوم بس (Züm bus) کے روٹ پر ہیں جن پر کوئی پبلک (Peel Public) یا سپیریٹ (Separate) سکول ہے
	بڑی سڑکوں کا کام مکمل ہو جانے کے بعد آغاز کیا جائے گا	مقامی رہائشی سڑکیں اور احاطے (courts)
	نمک چھڑکا جائے گا (بہت سخت سردی کی صورت میں ریت کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے)	
برف باری ختم ہونے کے 24 گھنٹے کے اندر اندر**	ایک مرتبہ برف باری سے 7.5 سینٹی میٹر یا اس سے زیادہ برف پڑنے کی صورت میں برف ہٹائی جائے گی۔	
	برف ہٹانے کے بعد ریت ڈالی جائے گی	وہ فٹ پاتھ جو سٹی کی ملکیت میں ہیں
	نمک چھڑکا جائے گا اور/یا ریت ڈالی جائے گی	<ul style="list-style-type: none"> بڑی سڑکوں پر سٹی کے پارکس اور دوسری سہولیات کے سامنے والے پتھریلے (جہاں پر گھاس والی پٹی نہ ہو) کسی عمارت کے پیچھے جن سڑکوں پر برامپٹن ٹرانزٹ (Brampton Transit) / زوم بس (Züm bus) کے سٹاپس ہیں
	نمک چھڑکا جائے گا اور/یا ریت ڈالی جائے گی	تفریحی عمارت میں پارکنگ کی جگہیں
برف باری ختم ہونے کے 48 گھنٹے کے اندر مکمل کرنا**	نمک چھڑکا جائے گا اور/یا ریت ڈالی جائے گی	پارکس کے اندر سیر کے راستے
	برف 7.5 سینٹی میٹر تک پہنچنے کی صورت میں برف ہٹائی جائے گی	

**ہم نے سروس کے لیے یہ اہداف مقرر کیے ہیں۔ خراب موسم کی صورت میں اس میں 48 گھنٹے تک یا اس سے زیادہ بھی لگ سکتے ہیں۔

ایک اچھا ہمسایہ ہونے کا ثبوت دین اور مندرجہ ذیل کام کریں:

- برف باری سے اگلے دن اپنے فٹ پاتھ سے صبح 11 بجے تک برف صاف کر دینا
- اگر آپ کونے والے مکان میں رہتے ہیں تو اپنے مکان کے سامنے اور ساتھ والے فٹ پاتھس سے برف کو ہٹانا
- برف کو اپنے مکان سے اٹھا کر سڑک یا فٹ پاتھ پر نہ پھینکنا
- سڑک پر اس وقت تک گاڑی پارک نہ کرنا جب تک کہ اس پر نمک نہ چھڑکا جا چکا ہو یا برف ہٹائی نہ جا چکی ہو (چاہے آپ کے پاس وہاں گاڑی پارک کرنے کا اجازت نامہ موجود ہی کیوں نہ ہو)۔ برف باری کے دوران یا اس کے بعد سڑک پر گاڑی کھڑی کرنے سے برف ہٹائی والی مشینری یا ایمرجنسی سروسز کی راہ میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ ایسا کرنے والی گاڑیوں کا چالان ہو سکتا ہے یا ان کو وہاں سے زبردستی ہٹایا جا سکتا ہے۔

رابطہ برائے مزید معلومات

فون: 311

(نوٹ: اگر آپ کو کسی اور زبان کے لیے مدد درکار ہے تو اپنی اس زبان کا نام انگریزی میں لہجے۔ آپ سے کوئی معاوضہ لیے بغیر ترجمان کی خدمات فراہم کی جائیں گی)

roads@brampton.ca

ای میل:

www.brampton.ca/snow

ویب:

@BramptonSnow

ٹویٹر:

BramptonRoads

فیس بک: